

# لاکریز۔ درخواست فارم



تاریخ \_\_\_\_\_  
 نمبر شمار \_\_\_\_\_  
 لاکر نمبر \_\_\_\_\_  
 چابی نمبر \_\_\_\_\_  
 اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_  
 لاکر کے اجراء کا مقصد: \_\_\_\_\_

منیجر،  
 فیصل بینک لمیٹڈ  
 برکت اسلامک بینکنگ  
 برانچ \_\_\_\_\_

جناب عزیز،

میں / ہم تصدیق کرتا ہوں / کرتے ہیں کہ میری / ہماری درخواست پر آپ نے مجھے / ہمیں روپے کرایہ، پیشگی قابل ادائیگی سالانہ اور ناقابل واپسی کے عوض اپنی برانچ میں مختص کیا ہے۔ جن شرائط پر آپ نے میری / ہماری درخواست قبول کی، وہ شرائط اس صفحے کے پیچھے درج ہیں، میں / ہم نے پوری طرح پڑھ سمجھ اور تسلیم کر لی ہیں اور ان کی باضابطہ پابندی کی جائے گی۔ یہ لاکر \_\_\_\_\_ کی طرف سے کرے گا۔

- 1- میں / ہم جناب / محترمہ \_\_\_\_\_ بذریعہ لاکر آپ کو میرا / ہمارا اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_ لاکر نمبر \_\_\_\_\_ کے لاکر ریٹیل چارجز کے لیے ڈیبٹ کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔
- 2- براہ کرم اپنے دفتر کے ساتھ مستقل لاگو ہدایات ریکارڈ کرنے کا انتظام کریں۔ تمام سالانہ ریٹیل چارجز آپ کے پاس موجود میرے / ہمارے اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_ سے ڈیبٹ کیے جائیں گے۔
- 3- میں / ہم نے میرے / ہمارے لاکر کی چابی حاصل کر لی ہے جو سر بمہر لفافے میں ہے۔

دستخط \_\_\_\_\_

قریب ترین رشتے دار (وارث)

میرے / ہمارے انتقال کی صورت میں براہ کرم درج ذیل کو میرے / ہمارے لاکر کی صورت حال کی اطلاع دی جائے:

جناب / محترمہ / مسماة \_\_\_\_\_  
 پتا \_\_\_\_\_

ٹیلیفون رہائش \_\_\_\_\_ دفتر \_\_\_\_\_ موبائل \_\_\_\_\_

لاکر ہولڈرز کے کوائف

- 1- نام \_\_\_\_\_  
 پیشہ \_\_\_\_\_  
 پتا \_\_\_\_\_  
 1- دستخط \_\_\_\_\_
- 2- نام \_\_\_\_\_  
 پیشہ \_\_\_\_\_  
 پتا \_\_\_\_\_  
 2- دستخط \_\_\_\_\_

صرف بینک کے استعمال کے لیے

وصول شدہ کرایہ \_\_\_\_\_  
 وصول شدہ کی ڈپازٹ \_\_\_\_\_  
 لاکر کسٹوڈین \_\_\_\_\_

## شرائط وضوابط

- 1- فیصل بینک برکت اسلامک بینکنگ تمام کاروباری دنوں میں بینکاری کے اوقات کے دوران کھلا رہے گا اور اتوار اور بینکوں کی تعطیلات کے دوران بند رہے گا۔
  - 2- اس معاہدے میں "بینک" سے مراد "ایجر" اور "لاکر ہولڈرز" سے مراد "مستاجر" ہے
  - 3- لاکر کا کرایہ سختی سے پیشگی قابل ادائیگی ہے اور بینک فیس کی عدم ادائیگی کی صورت میں، خواہ اس کا تقاضا کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، لاکر تک رسائی دینے سے انکار کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
  - 4- لاکر ہولڈرز کو لاکر پر کوئی حق ملکیت حاصل نہیں ہوگا اور اسے صرف ان شرائط کے مطابق لیز ایگریمنٹ کی موجودگی کے دوران استعمال اور اس تک رسائی کا حق ہوگا۔ لاکر ہولڈرز کو لاکر یا اس کا کوئی حصہ کسی کو سونپنے یا اجارہ پر دینے کا حق نہیں ہوگا اور لاکر ہولڈرز کے انتقال یا دیوالیہ پن پر لیز ختم کر دیا جائے گا۔ لاکر ہولڈرز لاکر دستاویزات، زیورات یا دیگر قیمتی اشیاء جمع کرانے کے سوا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی، اور نہ ہی لاکر ہولڈرز لاکر کو کوئی دھماکا خیز، ضرر رساں یا تباہ کن نوعیت کی کوئی چیز جمع کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔
  - 5- نئے لاکر کو کرائے پر دیے جانے کے وقت لاکر ہولڈرز کو لاگو ٹیرف / شیڈول آف چارجز کے مطابق ایک ایک وقتی ناقابل واپسی رقم بطور "چابی کاڈ پاٹ چابی کو سنبھالنے کیلئے" ادا کرنے ہوں گے۔
  - 6- بینک کسی بھی وجہ، بشمول چوری، ڈکیتی، آتش زدگی، حادثہ یا کسی ناگہانی صورت حال، لاکر میں موجود کسی چیز، دستاویز، سیکورٹیز یا قیمتی اشیاء کی جزوی یا مکمل گم شدگی، یا تباہی یا نقصان کی کوئی ادائیگی یا ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے گا۔
  - 7- دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی دوسری پارٹی کو سات دن کا معاہدہ ختم کرنے کے ارادے کا تحریری نوٹس دے کر لیز کے خاتمے کی متفقہ مدت سے پہلے لیز کا معاہدہ ختم کر سکتی ہے، اور ایسی صورت میں لاکر ہولڈرز کو لاکر کی چابی لیز کے اختتام کے دن دوپہر سے پہلے بینک کے حوالے کرنی ہوگی۔
  - 8- اگر ایسا کوئی نوٹس نہ دیا گیا ہو تو لاکر کے حوالے سے لیز کا معاہدہ مقررہ تاریخ کے بعد مزید ایک سال کے لیے تجدید شدہ تصور کر لیا جائے گا اور لاکر ہولڈرز کی طرف سے بینک کو لیز کرائے کی ادائیگی کی جائے گی تاہم یہ شرط دریں اثنا بینک کے مجموعہ حقوق کے لیے بلا امتیاز لاگو ہے۔
  - 9- کسی دیگر چارہ جوئی سے قطع نظر، جو بینک کی طرف سے لاکر ہولڈرز کے خلاف کی گئی ہو، سالانہ کرائے کی عدم ادائیگی پر، خواہ اس کا تقاضا کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، لاکر ہولڈرز کی طرف سے کسی بھی شرط کی خلاف ورزی پر لاکر ہولڈرز کی طرف سے لاکر کو استعمال کرنے کے تمام اختیارات ضبط ہو جائیں گے اور بینک کو لاکر کو توڑ کر کھولنے اور لاکر میں موجود اشیاء لاکر ہولڈرز کو اس کے رجسٹرڈ پتے پر بھجوانے (بذریعہ پارسل پوسٹ یا کسی اور مناسب ذریعے سے، لاکر ہولڈرز کے رسک پر)، یا اپنے پاس رکھنے اور ایسی اشیاء کسی دوسرے مناسب لاکر میں رکھنے، جس پر ہونے والے اصل اخراجات لاکر ہولڈرز کو ادا کرنے ہوں گے۔
  - 10- اگر لاکر ہولڈرز سے لاکر کی چابیاں گم ہو جائیں تو بینک کو فوراً اطلاع دی جائے۔ لاکر کھولنے اور تالے اور چابیوں کی تبدیلی کے تمام اخراجات لاکر ہولڈرز ادا کرے گا۔
  - 11- لاکر کو درکار تمام مرمیوں، لاکر کے دروازے کی درستگی وغیرہ صرف بینک کے مقرر کردہ کاریگر سے کروائی جائے گی۔
  - 12- لاکر ہولڈرز کے پتے میں کسی تبدیلی کی اطلاع بینک کو دی جانی چاہیے اور لاکر ہولڈرز کے رجسٹرڈ پتے پر بذریعہ ڈاک بھیجے گئے کسی نوٹس کو کسی عام ڈاک کے پہنچنے کی مدت کے مطابق باضابطہ وصول شدہ تصور کیا جائے گا۔
  - 13- بینک لاکر اور / یا اس میں موجود اشیاء کو ایسے حفاظتی بندوبست میں، جسے بینک مناسب سمجھتا ہو، کسی دوسرے مقام پر منتقل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ کسی ایک مقام سے دوسرے کو ایسی منتقلی کی صورت میں بینک، لاکر ہولڈرز کو تحریری نوٹس بھیج سکتا ہے اور اگر لاکر ہولڈرز لاکر اور / یا اس میں موجود اشیاء کی کسی دوسرے مقام پر منتقلی سے اتفاق نہ کرتا ہو تو اسے لاکر کو اشیاء سے خالی کر کے لاکر کی چابی بینک کے حوالے کرنا ہوگی۔ لاکر ہولڈرز کی طرف سے نوٹس کی تاریخ کے پانچ دن کے اندر لاکر سے اشیاء ہٹانے اور لاکر کی چابی بینک کے حوالے کرنے میں ناکامی کی صورت میں اسے لاکر ہولڈرز کی طرف سے رضامندی تصور کیا جائے گا اور مزید برآں لاکر ہولڈرز منتقلی کو چیلنج کرنے یا اس کی بنیاد کسی تنازع یا دعوے کا حق ساقط کرتا ہے۔
  - 14- انتہائی اہم وجوہات یا کسی اور وجہ سے، نہ کہ بینک کی دانستہ غلطی کے سبب، سیف ڈپازٹ ڈپارٹمنٹ کھولنا غیر محفوظ یا نامناسب ہو جائے، تو بینک ایسی مدت کے لیے سیف ڈپازٹ ڈپارٹمنٹ بند رکھنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، جسے وہ مناسب سمجھے۔ بینک کسی پیشگی اطلاع کے بغیر ڈپارٹمنٹ کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات مقرر کرنے کا اختیار بھی محفوظ رکھتا ہے۔
  - 15- لاکر ہولڈرز کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اپنے لاکر کی چابیاں محفوظ جگہ رکھیں، اپنے لاکر کے نمبر، ان کے پاسورڈز (اگر کوئی دیے گئے ہوں) افشاء نہ کریں اور اپنی چابیاں اپنے مجاز ایجنٹ کے علاوہ کسی اور شخص کے حوالے نہ کریں۔
  - 16- یہاں بذریعہ ہذا اقرار کیا جاتا ہے کہ پارٹیوں کا باہمی تعلق بینک اور لاکر ہولڈرز کا ہوگا۔
  - 17- لاکر ہولڈرز ایسے قوانین اور ضوابط کی پابندی کا اقرار کرتا ہے جو بینک وقتاً فوقتاً اختیار کر سکتا ہے۔
  - 18- پارٹیوں کے درمیان معاہدہ جاتی تعلق کے باوجود بینک کی طرف سے لی گئی تکاfl پالیسی لاکر کے ساز کی بنیاد پر درج ذیل بلند ترین حدود تک لاکر میں رکھی گئی املاک کو نقصان سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔
- | لاکر ساز | زیادہ سے زیادہ تکاfl شدہ رقم | لاکر ساز     | زیادہ سے زیادہ تکاfl شدہ رقم |
|----------|------------------------------|--------------|------------------------------|
| چھوٹا    | 500,000/- (پانچ لاکھ روپے)   | لارج         | 1,000,000/- (دس لاکھ روپے)   |
| درمیانہ  | 800,000/- (آٹھ لاکھ روپے)    | ایکسٹرا لارج | 1,200,000/- (12 لاکھ روپے)   |
- 19- نقصان کے کسی افسوسناک واقعے کی صورت میں بینک مذکورہ پالیسی کے تحت دعویٰ کرے گا اور متعلقہ اشیاء کی ملکیت اور قدر و قیمت کے تسلی بخش شواہد پیش کیے جانے کے تقاضوں کی تکمیل اور پالیسی اور دعوے کی شرائط کی تعمیل کی صورت میں لاکر ہولڈرز کو درج ذیل تین رقوم میں سے کم ترین ادا کرے گا:
    - لاکر ہولڈرز کی طرف سے مطلع کردہ نقصان کی اصل رقم
    - مندرجہ بالا لاگو زیادہ سے زیادہ تکاfl شدہ رقم
    - مندرجہ بالا دو آپشنز میں سے کم ترین کی بنیاد پر ملحوظ تناسب مقرر کردہ رقم، اگر تمام لاکر ہولڈرز کی طرف سے دائر کردہ دعووں کی مجموعی مالیت اس پالیسی کے تحت کسی واحد واقعے کے لیے دعوے کی اجازت شدہ رقم کی مالیت سے تجاوز کر جائے۔
  - 20- لاکر کے اندر کیش یا سکوٹ / سیکورٹیز رکھنے سے گریز کریں کیوں کہ ایسی اشیاء کی ملکیت عموماً کسی دستاویزی ثبوت کے ذریعے ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ براہ یزہن میں رکھا جائے کہ نقصان کی صورت میں ایسی املاک کے نقصان کی تلافی کے دعووں پر ممکنہ طور پر غور نہیں کیا جائے گا۔
  - 21- لاکر ہولڈرز کو ان کی اپنی صوابدید پر ترغیب دی جاتی ہے کہ لاکر میں رکھی گئی قیمتی اشیاء پر اضافی تکاfl حاصل کریں، خصوصاً اگر ان کی مالیت مندرجہ بالا بلند ترین حدود سے تجاوز کرتی ہو، جیسا کہ بینک کی پالیسی کے تحت تحفظ مندرجہ بالا حد تک محدود ہے۔
  - 22- اگر بینک کو عدالت یا کسی تفتیشی ادارے کی جانب سے سیف ڈپازٹ لاکر کو منجمد کرنے کا حکم موصول ہو تو بینک اختیار رکھتا ہے کہ لاکر ہولڈر کو اطلاع دے بغیر لاکر سے متعلق ہر کاروائی روک دے۔
  - 23- مشترکہ لاکر جس کو چلانے کی ہدایت (خواہ تنہا یا سب لاکر کو چلاتے ہوں) کی ہو، اگر کسی ایک لاکر ہولڈر کی جانب سے برائے کو تحریری ہدایت کسی بھی آپس میں تنازع کے حوالے سے موصول ہو تو بینک اختیار رکھتا ہے کہ لاکر سے متعلق ہر کاروائی کو منجمد کر دے جب تک دونوں اہتمام لاکر ہولڈرز کی جانب سے تنازع کے سمجھے یا لاکر کی کاروائی کو بحال کرنے کی تحریری درخواست موصول نہ ہو۔
  - 24- لاکر کے سالانہ کرایہ کی تاخیر سے ادائیگی کی صورت میں لاکر ہولڈرز پر چھری کی رقم موجودہ برکت شیڈول آف چارجز مطابق لاگو ہوگی۔